

## 49041-چوپايوں میں اس وقت زکاۃ ہوگی جب وہ سارا یا سال کا اکثر حصہ چرتے رہے ہوں

### سوال

میرے پاس اونٹ اور بھریاں ہیں سال کا کچھ حصہ تو وہ چرتے ہیں، اور سال کا کچھ حصہ میں خود انہیں چارہ ڈالتا ہوں، تو کیا ان میں زکاۃ ہے یا نہیں؟

### پسندیدہ جواب

سوال نمبر (40156) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے کہ چوپايوں میں زکاۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ چرنے والے ہوں، اور چرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ سارا سال یا سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں، لیکن اگر انہیں نصف برس یا اس کا اکثر حصہ چارہ ڈالا جاتا ہو تو ان میں زکاۃ نہیں ہوگی۔

ابن قادم رحمہ اللہ "المفہی" میں رقمط از ہیں:

ہمارے امام (یعنی امام احمد) اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر وہ سال کے اکثر حصہ میں چرتے ہوں تو اس میں زکاۃ ہوگی۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اگر وہ سارا سال نہ چرتے ہوں تو اس میں زکاۃ نہیں، کیونکہ زکاۃ کے لیے چرنا شرط ہے، لہذا سے سارا سال معتبر ہو گا، اور ہماری دلیل چوپايوں میں زکاۃ کے وجوب والے عمومی دلائل ہیں، اور تھوڑا سا چارہ ڈالنے سے چرنے کا نام زائل نہیں ہوتا، لہذا سے حدیث میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتا، اور اس لیے بھی کہ تھوڑی سی مدت کے لیے چارہ ڈالنے سے مچانہیں جاسکتا، اور اسے سارے سال میں معتبر سمجھنے سے بالکل ہی زکاۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ اح منتصرا۔

"کیونکہ چوپايوں کے مالکوں کو بعض اوقات لازماً چارہ ڈالنا پڑتا ہے، اور وہ اس پر مجبور ہوتے ہیں، مثلاً سردی اور برفباری کے موسم میں "اہ ماخوذ از الموسوعۃ الفقہیۃ" (23/250).

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا:

ایک شخص کے پاس اونٹ ہیں، وہ چرانے کے ایام میں ان کے لیے پر اگاہ خریدتا ہے، تو کیا ان میں زکاۃ ہے؟

شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

"اگر تو سال کا اکثر حصہ چرنے پر بسر ہوتا ہے، مثلاً وہ تین یا چار ماہ ان کے لیے چارہ خریدتا ہے، تو وہ اس کی زکاۃ ادا کرے گا، علماء کرام کے اقوال میں سے مشور قول یہی ہے" اح دیکھیں: "مجموع الفتاویٰ" (25/48).

اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا:

ایک شخص کے پاس سوانح ہیں، لیکن وہ سال کا اکثر حصہ انہیں چارہ ڈالتا ہے، تو کیا اس میں زکاۃ ہوگی؟

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

"جب چوپائے اونٹ یا گائے اور بکریاں وغیرہ سارا سال یا سال کا اکثر حصہ چرنے والوں میں سے نہ ہوں تو اس میں زکاۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں زکاۃ واجب ہونے میں یہ شرط رکھی ہے کہ وہ چرنے والے ہوں۔"

لہذا اگر مالک سال کا اکثر یا نصف حصہ انہیں چارہ ڈالتا ہے تو اس میں زکاۃ نہیں، لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہوں تو پھر اس میں تجارت کی زکاۃ ہوگی، اور اس طرح یہ تجارتی سامان میں شامل ہونگے، جس طرح فروخت کرنے کے لیے اراضی اور گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جب ان میں سے موجود جانوروں کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکاۃ ہوگی" اہ

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ "فتاویٰ الزکاۃ" میں کہتے ہیں:

"جن موادیوں کو پورا نصف سال چارہ ڈالا جاتا ہے، ان میں زکاۃ نہیں ہے کیونکہ موادی کی زکاۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ چرنے والے ہوں، اور چرنے والے وہ ہیں جو سارا سال یا سال کا اکثر حصہ قدرتی بباتات کا کر بسر کریں، لیکن وہ موادی جنمیں سال کا کچھ حصہ یا نصف برس چارہ ڈالا جاتا ہو ان میں زکاۃ نہیں۔"

لیکن اگر یہ موادی تجارت کے لیے ہوں تو ان کا حکم تجارتی سامان کا ہوگا، اور اگر یہ ایسے ہوں تو ہر سال ان کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس قیمت میں سے دس کا چوتھائی حصہ یعنی اٹھائی فیصد زکاۃ نکالی جائے گی" اہ

دیکھیں: فتاویٰ الزکاۃ (49)۔

اور "الشرح الممتع" میں کہتے ہیں:

"جب انسان کے پاس اونٹ ہوں جو کہ پانچ ماہ چرتے ہوں، اور انہیں سات ماہ مالک خود چارہ ڈالا جائے تو ان میں زکاۃ نہیں ہے۔"

اور اگر چہ ماہ چریں اور انہیں پانچ ماہ چارہ ڈالا جائے تو اس میں زکاۃ نہیں ہے۔

اور اگر وہ سارا برس چرتے ہوں تو ان میں زکاۃ ہوگی۔

اور اگر سات ماہ چرتے ہوں اور انہیں پانچ ماہ چارہ ڈالا جائے تو ان میں زکاۃ ہوگی" اہ

دیکھیں: الشرح الممتع (32/6)۔

اور مستقل فتویٰ کمیٹیٰ کے فتاویٰ جات میں ہے:

"چرنے والی بکریوں میں زکاۃ واجب ہوتی ہے... جب وہ سارا سال یا سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں" اہ مختصر ا

دیکھیں: فتاویٰ الجیہ الدائمة للبحوث العلمیہ والافاء (9/214)۔

والله عالم.